



Press Release
February 8, 2017
For immediate release

SECP registers 766 companies in January

Facilitative measures start bearing fruit

ISLAMABAD, February 8: SECP registered 766 companies during the month of January 2017. Incorporation of new companies has witnessed an unprecedented 48% growth in recent three months with constant increasing trend. It may be recalled that SECP introduced numerous facilitation measures simultaneously with introduction of new Company Law through Companies Ordinance in November, 2016. Although the Companies Ordinance 2016 was withdrawn on rejection by the Senate of Pakistan, it may be recalled that a variety of facilitative measures were announced by the Chairman SECP Mr. Zafar Hijazi in a press conference held on 2nd December, 2016. He anticipated that these measures would lead to 100% increase in rate of new company incorporation in few months. The growth witnessed so far substantiate his claim.

Around 86 percent companies were registered as private limited companies, while around 11 percent companies were registered as single member companies. Three percent of the companies were registered as public unlisted, association's not-for-profit, and foreign companies.

The service sector took the lead with the incorporation of 151 companies, construction with 88, followed by trading with 46, information technology with 44, education with 30, food & beverages and tourism with 25 each, real estate development and engineering with 20 each, pharmaceutical with 16, communication with 14 and 287 companies were registered in other sectors. Moreover, 3 foreign companies were also registered by the CRO in Lahore, Peshawar and Islamabad.

Foreign investment has been reported in 49 new companies. These companies have foreign investors from, Australia, Bahrain, China, Denmark, Germany, Japan, Netherlands, Philippines, Oman, Switzerland Turkey, the UK and The US.

During the month, the highest numbers of companies, i.e. 252, were registered at the Company Registration Office (CRO), Islamabad, followed by 247 and 158 companies registered at CRO Lahore and Karachi respectively. The CROs in Peshawar, Multan, Faisalabad, Quetta, Sukkur and Gilgit-Baltistan registered 44, 33, 20, 9, 2 and 1 company respectively.

Tickers:

1. SECP registered 766 companies in January
2. Foreign investment has been witnessed in 49 new companies

ایس ای سی پی نے جنوری میں سات سو چھیاسٹھ کمپنیاں رجسٹر کیں

ایس ای سی پی کے سہولتی اقدام ثمر آور ہونا شروع ہو گئے ہیں

اسلام آباد: 8 فروری: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جنوری ۲۰۱۷ میں سات سو چھیاسٹھ کمپنیاں رجسٹر کیں۔ حالیہ تین ماہ میں اڑتالیس فی صد زیادہ کمپنیاں رجسٹر ہوئی۔ ایس ای سی پی نے نومبر ۲۰۱۶ میں کمپنیز آرڈیننس کے ذریعے نئے قانون کو متعارف کروانے کے ساتھ بیک وقت متعدد سہولتی اقدام بھی متعارف کروائے ہیں۔ اگرچہ کمپنیز آرڈیننس ۲۰۱۶ کو پاکستان کے سینیٹ کی جانب سے مسترد کرنے پر واپس لے لیا گیا تھا۔ لیکن کہ ایس ای سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کی جانب سے مختلف اقسام کے سہولتی اقدام ۲ دسمبر ۲۰۱۶ میں منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں متعارف کروائے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے چند ہی ماہ میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں ۱۰۰ فی صد اضافہ ہو گا۔ ان کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔

رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں چھپاسی فی صد پرائیویٹ لمیٹڈ گیارہ فی صد سنگل ممبر جبکہ باقی تین فی صد میں پبلک ان لسٹڈ، غیر منافع بخش ایسوسی ایشن، اور غیر ملکی کمپنیاں شامل ہیں۔

سب سے زیادہ کمپنیاں خدمات کے شعبے میں رجسٹرڈ ہوئیں جن کی تعداد ایک سو اکیاون ہے، تعمیرات میں اٹھاسی، تجارتی شعبے میں چھپالیس، انفرمیشن ٹیکنالوجی میں چوالیس، تعلیم میں تیس، خوراک و مشروبات اور سیاحت میں پچیس، پچیس، ریل سٹیٹ اور انجینئرنگ میں بیس، بیس، ادویہ سازی میں سولہ، مواصلات میں چودہ اور دو سو ستاسی کمپنیاں دیگر شعبوں میں رجسٹر ہوئیں۔ اس کے علاوہ تین بین الاقوامی کمپنیاں لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں رجسٹر ہوئیں۔

علاوہ ازیں انچاس کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ ان سرمایہ کاروں کا تعلق آسٹریلیا، بحرین، چین، ڈنمارک، جرمنی، جاپان، نیدرلینڈ، فلپائن، اومان، سوئزرلینڈ، ترکی، برطانیہ، اور امریکہ سے ہے۔ یہ سرمایہ کاری مختلف شعبے میں ہوئی۔ سب سے زیادہ رجسٹریشن، اسلام آباد کے کمپنی رجسٹریشن آفس میں ہوئی جہاں دو سو باون کمپنیاں رجسٹر ہوئیں جبکہ دو سو سینتالیس لاہور، ایک سو اٹھاون کراچی، پشاور میں چوالیس، ملتان میں تینتیس، فیصل آباد میں بیس، کوئٹہ میں نو، سکھر میں دو، اور گلگت بلتستان میں ایک کمپنی رجسٹر ہوئی۔